

برائے فوری اجراء

## کورونا وائرس (COVID-19) کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سٹی آف برامپٹن نے بارز، ریسٹورینٹس اور بوتلوں وغیرہ کو گاہکوں کو اندر بیٹھ کر کھانے پینے کی اشیاء پیش کرنے سے روکنے کا اعلان کر دیا

برامپٹن، آن (16 مارچ 2020) - سٹی آف برامپٹن، صوبہ اونٹاریو کے لیے پیل پبلک ہیلتھ کے آج کے اعلان کی مکمل حمایت کرتا ہے جس میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بارز، ریسٹورینٹس اور بوتلوں وغیرہ کو گاہکوں کو اندر بیٹھ کر کھانے پینے کی اشیاء پیش کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ، پیل پبلک ہیلتھ 17 مارچ کو رات 12:01 کے بعد نائٹ کلبوں، مووی تھیٹرز اور کنسرٹ ایونیوز کی بھی مکمل بندش کی پرزور سفارش کرتا ہے۔

پیل پبلک ہیلتھ پرزور سفارش کرتا ہے کہ سماجی زندگی میں بھی ایک دوسرے سے فاصلہ رکھا جائے۔ سماجی زندگی میں فاصلہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی رابطوں سے گریز کریں اور دوسرے لوگوں سے محفوظ فاصلے (تقریباً 2 میٹر) پر رہیں۔

پیل پبلک ہیلتھ نے کینیڈا سے باہر، بشمول امریکہ کا سفر کرنے والے رہائشیوں پر زور دیا ہے کہ وہ 14 دن تک اپنے آپ کو دوسرے لوگ سے الگ تھلگ رکھیں۔

اگرچہ بہت سے بارز اور کھانے پینے کی خدمات فراہم کرنے والے دیگر اداروں نے رضاکارانہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیل کے رہائشیوں کی حفاظت کے لیے اپنے کاروباروں کی جانب سے بہتری کے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائیں گے، بصورت دیگر پیل میں موجود کوئی بھی کاروباری ادارہ اگر صوبہ یا پیل پبلک ہیلتھ کی سفارشات کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کے خلاف ہیلتھ پروٹیکشن اینڈ پروموشن ایکٹ کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

سٹی آف برامپٹن رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی سروسز فراہم کرنے والے مقامی اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ان سے کھانے پینے کی اشیاء اپنے گھروں میں منگوا کر یا لے جا کر کھائیں۔

سٹی سروسز، سہولت گاہوں اور پروگراموں کی بندش کے بارے میں تازہ ترین اپ ڈیٹس اور اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs) کے لیے، براہ کرم ملاحظہ فرمائیں: [www.brampton.ca/covid19](http://www.brampton.ca/covid19)

پیل پبلک ہیلتھ کی جانب سے تازہ ترین معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں: [www.peelregion.ca/coronavirus](http://www.peelregion.ca/coronavirus)

### اقتباس

"کمیونٹی میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں پیش رفت کے لیے فوری اور اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ سٹی آف برامپٹن، پیل پبلک ہیلتھ کی آج کی سفارشات کی مکمل حمایت کرتا ہے اور اپنی کمیونٹی کی سیفٹی کو ترجیح دیتے ہوئے ایسی تمام مقامی سہولت گاہوں، جن میں گاہک بیٹھ کر کھا پی سکتے ہیں، بشمول ریسٹورینٹس، بارز اور کافی شاپس وغیرہ کو عارضی طور پر بند کیا جا رہا ہے۔ سٹی آف برامپٹن کرونا وائرس سے ہونے والے غیر متوقع نقصانات میں کمی لانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس وقت ہمیں بطور کمیونٹی پہلے سے کہیں زیادہ متحد رہنے کی ضرورت ہے اور آنے والے ہفتوں کے دوران، میں عوام کی جانب سے حمایت کا طلبگار ہوں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)